

25. نا پسندیدہ اعمال Despicable acts

1. اَرَعَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالَّذِينَ هُوَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ هُوَ

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ هُوَ

بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو (روز) جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی (بد بخت) ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے (لوگوں کو) ترغیب نہیں دیتا تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریہ نہیں دیتے۔

(107: Al-Maun/1-7)

Don't you see who denies the Judgment? Then such is he who repulses the orphan, And encourages not the feeding of the indigent. So woe to the praying ones, who are neglectful of their prayers, those who (do good) to be seen, And refuse to lend the articles of daily use (to others on demand). (107: Al-Maun\1-7)

بدظنی، تجسس اور غیبت Suspicion, Probing and Backbiting

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم

بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

اے اہل ایمان! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں۔ اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ (تو غیبت نہ کرو) اور اللہ کا ڈر رکھو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ (49: Al-Hujrat/12-)

You who believe! Avoid suspicion the most. Indeed suspicion in some cases is a sin: And spy not on each other behind their backs. Would any of you like to eat the flesh of his dead brother? Nay, you would abhor it...But fear Allah: For Allah is Oft-Returning, Most Merciful.

(49: Al-Hujrat\12)

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوَأَةٌ

مومنو! ایسی چیزوں کے بارے مت سوال کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ ﴿۱۰۱/ا﴾

(5: 101/a)

O you who believe! Do not ask about things which, if made known to you may vex you. ﴿5: Al-M'aidah\101﴾

بہتان و تہمت Accusation

1. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِهِ بِهَا فَمَا يَذَّكَّرْهُ لَهَا وَلَئِنَّ أُولَئِكَ لَمُخْتَلِفُونَ

اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس سے کسی بے گناہ کو مہتم کر دے تو اس نے بہتان اور صریح

گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ ﴿4: 112﴾

But if any one earns a fault or a sin and throws it on to one that is innocent, he carries a falsehood and a flagrant sin. ﴿4: An-Nis'a\112﴾

سرگوشی Whispering

1. لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ جُحُودِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ط وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۱۴/ب﴾

ان لوگوں کی بہت سی مشورتیں اچھی نہیں ہاں (اس شخص کی مشورت اچھی ہو سکتی ہے) جو خیرات یا نیک

بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے گا تو ہم اس کو بڑا اجر

دیں گے۔ ﴿4: 114﴾

In most of their secret talks there is no good, except who enjoins charity or goodness or conciliation between people. And whoever does it, seeking the pleasure of Allah, We shall soon give him a big reward. ﴿4: An-Nis'a\114﴾

(4: An-Nis'a\114)

2. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَنَاجُوا بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ

وَالتَّقْوَى ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۱۱۴/ب﴾

مومنو! جب تم آپس میں سرگوشیاں کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی باتیں نہ کرنا بلکہ نیکو کاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا۔ اور اللہ سے جس کے سامنے جمع کئے جاؤ گے ڈرتے رہنا۔ ﴿۵۸﴾

(58: Al-Mujadilah\9)

O you who believe! When you hold secret counsel, do it not for iniquity and hostility, and disobedience to the Prophet; but do it for righteousness and self-restraint; and fear Allah, to Whom you shall be brought back. ﴿58: Al-Mujadilah\9﴾

ٹھٹھہ، مذاق Laughing at and Mockery

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط بئسَ الأسمُ الفسوقُ بعدَ الأيمانِ ؕ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۵۸﴾

مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام گناہ ہے۔ اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ ﴿49: Al-Hujrat\11﴾

O you who believe! Let not some people laugh at other people; perchance they may be better than the former. Nor let women laugh at others, perchance they may be better than the former. Neither defame your own people nor call each other by nicknames: Evil is a bad name after faith. And those who do not desist are certainly unjust. ﴿49: Al-Hujrat\11﴾

عیب جوئی اور طعنہ زنی Fault Finding and Slandering

1. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿۱۰۴﴾

ہر طعن آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ ﴿104: Al-Humozah\1﴾

Woe to every (kind of) scandal-monger and-backbiter, ﴿104: Al-Humozah\1﴾

(104: Al-Humozah\1)

Hurtful Speech بدزبانی

1. لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْرِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٣٨/٤﴾

اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو۔ اور اللہ (سب کچھ) سنتا (اور)

جانتا ہے۔ ﴿١٣٨/٤﴾

Allah loves not the public utterance of hurtful speech except the one, who has been treated cruelly. And Allah is ever Hearing, all Knowing. ﴿١٣٨/٤﴾

(4: An-Nis'a\148)

2. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّبْنَا لِلكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مُرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨/ب﴾

اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برانہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بے

سمجھے برا (نہ) کہہ بیٹھیں۔ اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال (ان کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں۔ پھر ان

کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ ﴿١٠٨/ب﴾

(108/b :6)

Revile not those whom they call upon besides Allah, lest they, out of spite, revile Allah in ignorance. Then is their return to their Lord and We shall tell them what they did. ﴿١٠٨/ب﴾ (6: Al-Ana'm\108)